



NOOR

International

# Rigegeniya

*Wurin Aikata Alheri*

Fitinar  
Dukiya

Tuna Allah

*a Lokutan Yalwa da Tsanani*



noor.gallery



• Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jin qai •

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا كَعَرِضِ  
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْدَتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمٌ ﴿٢١﴾

[الحديد: ٢١]

Ku yi rige-rige zuwa neman gafara daga  
 Ubangijinku da Aljanna wadda faxinta kamar  
 faxin sammai da qasa yake, an tanade ta don  
 waxanda suka yi imani da Allah da  
 manzanninsa. Wannan falalar Allah ce da Yake  
 ba da ita ga wanda Ya ga dama. Allah kuwa  
 Ma'abocin falala ne, Mai girma

Alkur'ani ( 57: 21)

AIKON DIN AIKI - TONA




وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعْدَتْ لِلْمُتَقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ  
 يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ  
 وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

[آل عمران : ١٣٤-١٣٣]

Kuma ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara ta  
 musamman daga wajen Ubangijinku, da kuma  
 Aljanna wadda faxinta yake daidai da sammai  
 da qasa, an yi tanadinta domin masu taqawa (Su  
 ne) waxanda suke ciyarwa a cikin halin yalwa da  
 halin quinci, kuma masu voye fushi kuma masu  
 yin afuwa ga mutane. Allah kuwa Yana son  
 masu kyautatawa

Alkur'ani (3: 133-134 )

AIKON DIN AIKI - TONA




وَذَا الْنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ  
 فَنَادَى فِي الظُّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ  
 إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ  
 مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

[الأنبياء: ٨٨، ٨٧]

Kuma (ka tuna) ma'abocin kifi (wato Yunusa) lokacin da ya tafi yana cike da fushi, sannan ya zaci cewa ba za Mu quntata masa ba, sai ya kira (Mu) a cikin duffai yana cewa: “Ba wani abin bauta da gaskiya sai Kai (ya Allah), tsarki ya tabbata a gare Ka, lallai ni na kasance cikin azzalumai!” Sai Muka amsa masa Muka kuma tserar da shi daga baqin ciki. Kamar haka kuwa Muke tserar da muminai

Alkur'ani (21: 87-88)

AIKON DIN AIKI - TONA



هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ  
وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ  
دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَمْ يَنْجِيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا  
أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقْقِ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ  
مَّتَعَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

[يونس ٢٣-٢٤]

Shi ne Wanda Yake tafiyar da ku a tudu da cikin ruwa, har lokacin da kuka shiga cikin jiragen ruwa, (jiragen) kuwa suka yi gudu da su tare da iska mai daxi, suka kuma yi farin ciki da su (jiragen) sai kuma wata iska mai qarfı ta zo musu; raqumin ruwa kuma ya zo musu ta kowane wuri, suka kuma tabbatar cewa dai su kam an rutsa da su, sai kuma suka roqi Allah suna masu tsarkake addini gare Shi (suna cewa): “Tabbas idan Ka tserar da mu daga wannan, lalle haqiqa za mu zamo cikin masu godiya.” To lokacin da Ya tserar da su sai ga su suna varna a bayan qasa ba da gaskiya ba. Ya ku mutane, haqiqa (sakamakon) varnarku a kanku kawai yake; ku xan ji dixin rayuwar duniya; sannan (daga qarshe) zuwa gare Mu ne makomarku take, sannan mu ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa

Alkur'ani (10: 22-23)

AIKON DIN AIKI - TONA



زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الْشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
 وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ<sup>صَدَقَ</sup>  
 الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَاللَّهُ عِنْدَهُو حُسْنُ الْمَئَابِ


١٤

[آل عمران: ١٤]

An qawata wa mutane son sha'awace-sha'awace  
 na mata da 'ya'ya da dukiya mai yawa abar tarawa  
 ta zinariya da azurfa da kuma kiwatattun dawaki  
 da dabbobi na gida da amfanin gona. Waxannan  
 duk morewa ce ta rayuwar duniya; Allah kuwa a  
 wurinsa ne kyakkyawar makoma take

Alkur'ani (3: 14)

AIKON DIN AIKI - TONA



أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَارُخٌ  
 بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ  
 الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا  
 وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا  
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورٌ ﴿٢٠﴾

[الحديد : ٢٠]

Ku sani cewa, ita dai rayuwar duniya ba wata aba ba ce sai  
 wasa da sharholiya da qyale-qyale da kuma fariya a  
 tsakaninku da takara wajan nuna yawan dukiya da ‘ya’yaye;  
 ta yi kama da ruwan saman da tsirransa suka bai wa  
 manoma sha’awa, sannan duk ya bushe, sai ka gan shi  
 fatsi-fatsi, sannan kuma ya zama dudduga; a lahiru kuwa  
 akwai azaba mai tsanani da gafara daga Allah da kuma  
 yarda. Rayuwar duniya ba komai ba ce sai jin daxi mai ruxi

Alkur'ani (57: 20)

AIKON DIN AIKI - TONA



وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا أَلْسَيَّةُ أَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَّةٌ كَانَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ٣٤ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ٣٥

[فصلت: ٣٤-٣٥]

Kyakkyawan (abu) da mummuna ba za su zama xaya ba. To ka ture mummuna da abin da ya fi kyau, to sai ka ga wanda yake tsakaninsa da kai gaba ce, ya zamanto kamar wani masoyi ne na qut da qut

Alkur'ani (41: 34-35)

AIKON DIN AIKI - TONA



وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الْصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ  
يَفْتَنَكُمُ الظَّالِمُونَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا  
لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

[النساء: ١٠١]

Kuma idan kun yi tafiya a bayan  
qasa, to babu laifi a kanku ku yi  
sallar qasaru[1], in kun ji tsoron  
kafirai su fitine ku. Lalle kafirai sun  
kasance maqiya ne, masu bayyana  
qiayaya a gare ku

Alkur'ani (4: 101)

AIKON DIN AIKI - TONA




وَإِذَا سَمُعُوا الْلَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا  
أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا  
نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

[القصص: ٥٥]

Idan kuma suka ji maganar banza sai su kau  
da kai daga gare ta, sai kuma su ce:  
“(Sakamakon) ayyukanmu yana gare mu, ku  
kuma na ayyukanku yana gare ku, kun kuvuta  
daga gare mu, ba ruwanmu da wawaye!”

Alkur'ani (28: 55)

AIKON DIN AIKI - TONA



أَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا وَهَوَّ لُهُ أَفَأَنْتَ  
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

[الفرقان: ٤٣]

Shin ka ga wanda ya mayar da son  
zuciyarsa (shi ne) abin bautarsa, to  
yanzu kai za ka zama mai kiyaye shi  
(daga bin son zuciyarsa)?

Alkur'ani (25: 43)

AIKON DIN AIKI - TONA





NOOR  
International

